

## Principles of Banking Icom Part 2 Urdu Medium Chapter 11 Online Test

| Sr | Questions                                                                                        | Answers Choice                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | آلہ اعتبار جو غیر ممالک ک سیر وسیاحت کے دوران لوگوں کا مہیا کرنے کے لئے جاری کیا جاتا ہے         | A. سیاح کا اعتباری خط<br>B. سیلخی چیک<br>C. دائروی یا گردش نوٹ<br>D. مذکورہ تمام                                  |
| 2  | بنک اعتباری خط کے اجراء پر وصول کرتا ہے                                                          | A. منافع<br>B. سود<br>C. کمیشن<br>D. ٹیوٹی                                                                        |
| 3  | آلہ اعتبار جو ایک ڈاک خانے کو دوسرے ڈاک خانے کے نام ادائیگی کا حکم نامہ ہوتا ہے                  | A. پوسٹل آرڈر<br>B. منی آرڈر<br>C. الف اور ب دونوں<br>D. دونوں میں سے کوئی نہیں                                   |
| 4  | سٹاک سرٹیفکیٹ ایک دستاویز جسے جاری کرتے ہیں                                                      | A. تجارتی بنک<br>B. سٹاک مارکیٹ<br>C. لمیٹڈ کمپنی<br>D. مرکزی بنک                                                 |
| 5  | ڈاک خانہ منی آرڈر بنائے پر وصول کرتا ہے                                                          | A. منافع<br>B. سود<br>C. کمیشن<br>D. مندرجہ بالا تمام                                                             |
| 6  | درج ذیل میں سے کس اعتباری خط کو جاری کنندہ بنک دیگر فریقین کی رضامندی کے بغیر منسوخ کر سکتا ہے   | A. قابل تنسیخ اعتباری خط<br>B. نا قابل تنسیخ اعتباری خط<br>C. گردش یا دائری اعتباری خط<br>D. غیر مشروط اعتباری خط |
| 7  | سٹاک سرٹیفکیٹ کی خرید و فروخت کہاں ہوتی ہے                                                       | A. تجارتی بنکوں میں<br>B. مرکزی بنک میں<br>C. ڈاک خانوں میں<br>D. سٹاک ایکسچینج میں                               |
| 8  | کون سی چیز مختلف علاقوں یا ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتی ہے           | A. بنک ڈرافٹ<br>B. منی آرڈر<br>C. اعتباری خط<br>D. سٹاک سرٹیفکیٹ                                                  |
| 9  | اعتباری خط کے درج ذیل فریقین میں سے کون سا فریق فائدہ حاصل کرنے والا کہلاتا ہے                   | A. درآمد کنندہ<br>B. برآمد کنندہ<br>C. جاری کنندہ بنک<br>D. اطلاع کنندہ بنک                                       |
| 10 | ایسا اعتباری خط ہے جس میں کچھ کاغذات فراہم کرنے کی شرط عائد کی جاتی ہے                           | A. مصدقہ اعتباری خط<br>B. دستاویزی اعتباری خط<br>C. غیر دستاویزی اعتباری خط<br>D. مندرجہ بالا تمام                |
| 11 | ایسا اعتباری خط جس کی بعض شرائط پوری ہونے کے بعد خود بخود تجدید ہو جاتی ہے                       | A. معینہ اعتباری خط<br>B. دستاویزی اعتباری خط<br>C. مصدقہ اعتباری خط<br>D. دائروی اعتباری خط                      |
| 12 | کون سا اعتباری خط برآمد کنندہ کو مال کی ترسیل سے قبل ہی رقم بطور قرض حاصل کرنے کا اختیار دیتا ہے | A. دستاویزی اعتباری خط<br>B. گرین کلارز اعتباری خط<br>C. مصدقہ اعتباری خط<br>D. ریڈ کلارز اعتباری خط              |
| 13 | اگر اعتباری خط کے منظور ہونے کی کوئی ضمانت موجود نہ ہو تو ایسے اعتباری خط کو کہتے ہیں            | A. مصدقہ اعتباری خط<br>B. نا قابل تنسیخ اعتباری خط<br>C. غیر مصدقہ اعتباری خط<br>D. مذکورہ سے کوئی نہیں           |
| 14 | اگر برآمد کنندہ اعتباری خط کی رقم کا وصول کنندہ نہ ہو تو ایسے اعتباری خط کو کہتے ہیں             | A. گردش اعتباری خط<br>B. بیک تو بیک اعتباری خط<br>C. قابل انتقال اعتباری خط<br>D. مذکورہ سے کوئی نہیں             |
| 15 | اعتباری خط جسے غیر تجارتی اعتباری خط کہتے ہیں                                                    | A. ناقابل تنسیخ اعتباری خط<br>B. ریڈ کلارز اعتباری خط<br>C. خصوصی اعتباری خط<br>D. سیاح کا اعتباری خط             |

